

Handwritten red text, possibly a name or title, partially obscured by a red line.

TRNVSAM
Kütüphanesi Arşiv
No 26958.2

وینقہ...
Handwritten text in black ink, possibly a title or header.

عافونہ...
Handwritten text in black ink, forming the main body of the document. The text is dense and appears to be a collection of notes or a list of items, possibly related to a library or collection. It includes various words and phrases in a cursive script.


تصویر افکار

دار الخلافه ۵ تشرین اول ۱۳۳۱

سیاسی ، ادبی ، علمی جریده یومیه
استانبول - شرف سوغاخی

تلفراف آدرسی : استانبول - تصویر افکار

تلفون : ۲۲۰



افندم

اون سکز کون امتداد ایدن یکی بر بحران تعطیل کچرد کدن صکره
غزته مز، تصویر افکار عنوانی آلتنده بو کوندن اعتبار آ انتشارینه دوام ایدیور.
شو اوچ هفته لق انسداددن متولد مادی ضرر لر نه قدر مهم اولسه ده ،
بو عارضه نك تأثیرینی کافه اداره مزه تحمیل اتمکه قرار ویردیکمزدن ،
آبونه لری مزك اشتراك مدتلرینی اون سکز کون تمید ایلوروز . بدایت تأسسندن
بری مظهر اولدیغمز رغبت عامه یه ، خدمت نشریه مز ايله بوندن بویله ده
استحقاقه غیرت ایده جکمز بیان ایدر وتأیید موالات ایلرز افندم .

تصویر افکار

بیت الاحسان
تقدیم اقامت الیوم
اصح با روزگار
عزت و راجت

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.958.2

تصویر افکار

دارالخلافه ۵ تشرین اول ۱۳۳۱

سیاسی ، ادبی ، علمی جریده یومیه
استانبول - شرف سوقاخی

تلغراف آدرسی : استانبول - تصویر افکار

تلفون : ۳۲۰



افندم

اون سکنز کون امتداد ایدن یکی بر بحران تعطیل کچرد کدن صکره
غزته مز، تصویر افکار عنوانی آلتنده بو کوندن اعتباراً انتشارینه دوام ایدیور.
شو اوچ هفته لوق انسداددن متولد مادی ضرر لر نه قدر مهم اولسه ده ،
بو عارضه نك تأثیرینی کافه اداره مزه تحمیل اتمکه قرار ویردیکمزدن ،
آبونه لریمزك اشتراك مدتلرینی اون سکنز کون تمدید ایلپورز . بدایت تأسسندن
بری مظهر اولدیغمز رغبت عامه یه ، خدمت نشریه مز ایله بوندن بویله ده
استحقاقه غیرت ایده جکمز ی بیان ایدر وتأیید موالات ایلرز افندم .

تصویر افکار

تصویر افکار

۳۴۰
شماره

دارالخلافة لا سبط ۱۹۳۷

سیاسی ، ادبی ، علمی جریده یومیه
شرف سوقاغنده دائره مخصوصه

تلغراف آدرسی : دارالخلافة - تصویر افکار
تلفون استانبول : ۳۴۰
☉ ☉ ☉

آدرسیه
مجلسه حرا بنوریه در اداره ی و ساحت و کسب

اقدام
کاغذ فری حمل ایله داغند جوهره درور ایندی قلم مکتوبی درده بوله برهنونده المند
سجده سیرت مدبرینده استخدا ایندی مکتوبه نظر و اعون مکتوبه و اصل ایله بولونور
کاغذ قلمده لکولوی لک باشی به کفتره نظمه مجبور فالت عقده فری ، بو و حتم رضه
به آه اول قوتاره موده ، داغند لریج بر و سوت حوضده اداره عبدلری حون ایله
غنت و حمت دره لکولوی حمتی لکولوی عرصه و تقویه ساعت ایله
کاغذ فری ۱۹۳۷ نایز مکتوبه ایضا ایله مکتوبه و حتم نقل ایله نایله ایله
سوکاغند ، نقدا صبر فری خدی ایندی شرطه ، اجنه آهوه حوضه لکفات
ایله بیه کده . ایله دره ندر حمت ایله محقق بولنده خوانده کجده اولن آلمه
اونده و نایزه بولنده فزده حتم ولید بولنده کاغذ نایله بیه مقول بولونور
اجنه کاغذ اعماله اولن لایره درضا اجناجه کرج نقل ایندیله سیه ایله ایندی
ساردا افراجه ساعده استخوانده بل بولن مقصود مقصود فالتقه در
کده بایزده حتم و دفعه مقصد ایله و حتم سکتله ، حکتوته جیلدره حناجه
اولن فری حاکمه ، اارس قویا مکتوبه بولنده نقده ، حکتوته جیلدره حناجه
تقینه تسمات لایزه نوس بولنن داغند و تقیه ایضا
ایله کده حاکمه ده بولن نقده نقده داغندن لطف اعصن
عقده فری قاری اوله بویو نوبلالت کریمانه لکده انعام ایله زانقم

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E175814

منقوله قاری

NORGES OPLYSNINGSKONTOR FOR NÆRINGSVEIENE
KRISTIANIA

THE TRADE INTELLIGENCE BUREAU OF NORWAY

Fortegnelse over eksportører. — List of exporters.

Papir og pap.

Paper and cardboard. — Papier und Pappe. — Papier et carton. — Papel y cartón. — Бумага и папка.

Avispapir. — «*News*». — *Zeitungspapier. — Papier de journal. — Papel de periódicos. — Газетная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Drammenselvans Papirfabriker, Gjeithus.

Aktieselskabet Embretsfos Fabrikker, Aamot st., Modum.

Aktieselskabet Holmen-Hellefos, Drammen.

Hunfos Fabrikker, Kristiania. — Annonce no. 251.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.

Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Usatineret hvidt trykpapir. — *Unglazed white printings. — Unsatiniertes weisses Druckpapier. — Papier blanc non satiné pour impression. — Papel blanco sin satinar para imprimir. — Несатинированная бьялая печатная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Drammen Paper Mills A/S, Drammen.

The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Limited, Borregaard pr. Sarpsborg. — Annonce no. 408.

Aktieselskabet Klosterfossen, Skien.

Edward Lloyd Limited, Vittingfos.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.

Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Satineret hvidt trykpapir. — *Glazed white printings. — Satiniertes weisses Druckpapier. — Papier blanc satiné pour impression. — Papel blanco satinado para imprimir. — Сатинированная бьялая печатная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Hunfos Fabrikker, Kristiania. — Annonce no. 251.

The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Limited, Borregaard pr. Sarpsborg.—Annonce no. 408.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord.—Annonce no. 407.
Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Usatineret hvidt, træfrit trykpapir. — *Unglazed fine white printings (without mechanical woodpulp).* — *Unsatiniertes weisses, holzfreies Druckpapier.* — *Papier blanc pour impression, non satiné et sans pâte de bois mécanique.* — *Papel blanco para imprimir sin satinar y sin pasta mecánica de madera.* — *Несатинированная бѣлая безъ примѣси дерева печатная бумага.*

A/S Hamang Papirfabrik, Sandviken pr. Kristiania.—Annonce no. 355.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

Satineret hvidt, træfrit trykpapir. — *Glazed fine white printings (without mechanical woodpulp).* — *Satiniertes weisses, holzfreies Druckpapier.* — *Papier blanc pour impression, satiné et sans pâte de bois mécanique.* — *Papel blanco satinado para imprimir sin pasta mecánica de madera.* — *Сатинированная бѣлая безъ примѣси дерева печатная бумага.*

A/S Hamang Papirfabrik, Sandviken pr. Kristiania.—Annonce no. 355.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

Usatineret tyndt trykpapir, hvidt og farvet. — *Unglazed thin printings, white and coloured.* — *Unsatiniertes dünnes Druckpapier, weiss und farbig.* — *Papier pour impression, blanc et de couleur, mince et non satiné.* — *Papel delgado para imprimir sin satinar, blanco y de color.* — *Несатинированная тонкая печатная бумага, бѣлая и цветная.*

O. Grundt-Røsholm, Hofs Brug pr. Hønefos.

Edward Lloyd Limited, Vittingfos.

A/S Papyrus Paper Mill, Mjøndalen.

A/S Svelvik Papirfabrik, Svelvik.

Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Usatineret farvet trykpapir. — *Unglazed coloured printings.* — *Unsatiniertes farbiges Druckpapier.* — *Papier de couleur non satiné pour impression.* — *Papel colorado sin satinar para imprimir.* — *Несатинированная цветная печатная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Edward Lloyd Limited, Vittingfos.

TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E. 758.6

Satineret farvet trykpapir. — *Glazed coloured printings.* — *Satiniertes farbiges Druckpapier.* — *Papier de couleur satiné pour impression.* — *Papel colorado satinado para imprimir.* — *Сатинированная цветная печатная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Hunsfos Fabrikker, Kristiania. — Annonce no. 251.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.

Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Imiteret kunstrykpapir. — *Imitation art paper.* — *Imitiertes Kunstdruckpapier.* — *Imitation de papier pour impression d'art.* — *Imitación de papel para impresion de artes.* — *Имитированная бумага для художественной печати.*

A/S Hamang Papirfabrik, Sandviken pr. Kristiania. — Annonce no. 355.

Illustrationstrykpapir. — *Lithographic paper.* — *Illustrations-Druckpapier.* — *Papier pour illustrations.* — *Papel para revistas ilustradas.* — *Печатная бумага для иллюстраций.*

A/S Hamang Papirfabrik, Sandviken pr. Kristiania. — Annonce no. 355.

Tapetpapir. — *Paper for wall-papers.* — *Tapetenpapier.* — *Papier pour papiers peints.* — *Papel para colgaduras.* — *Обойная бумага.*

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.

Skrivpapir. — *Writing-paper.* — *Schreibpapier.* — *Papier à écrire.* — *Papel para escribir.* — *Писчая бумага.*

A/S Hamang Papirfabrik, Sandviken pr. Kristiania. — Annonce no. 355.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

Greaseproof. — *Greaseproof.* — *Pergamentersatz.* — *Papier huilé.* — *Papel untado.* — *Пергаментная бумага.*

Drammen Paper Mills A/S, Drammen.

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.

Aktieselskabet Katfos Cellulosefabrik, Gjeithus.

Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Imiteret pergamentpapir. — *Imitation parchment.* — *Imitiertes Pergamentpapier.* — *Papier, imitation de parchemin.* — *Papel, imitación pergamino.* — *Имитированная пергаментная бумага.*

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Limited, Borregaard pr.
Sarpsborg. — Annonce no. 408.
Edward Lloyd Limited, Vittingfos.

Pergamyn. — *Pergamyn.* — *Pergamyn.* — *Pergamine.* — *Pergamino.* — *Пергаминъ.*

Drammen Paper Mills A/S, Drammen.

Usatineret sulfitpapier. — *Unglazed sulphite paper.* — *Unsatiniertes Sulfitpapier.* — *Papier au bisulfite non satiné.* — *Papel sulfito sin satinar.* — *Несатинированная бумага изъ сульфита.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen. — Annonce no. 108.

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

Aktieselskabet Katfos Cellulosefabrik, Gjeithus.

The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Limited, Borregaard pr.
Sarpsborg. — Annonce no. 408.

Edward Lloyd Limited, Vittingfos.

Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.

Satineret sulfitpapier. — *Glazed sulphite paper.* — *Satiniertes Sulfitpapier.* — *Papier au bisulfite satiné.* — *Papel sulfito satinado.* — *Сатинированная бумага изъ сульфита.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

The Kellner-Partington Paper Pulp Co. Limited, Borregaard pr.
Sarpsborg. — Annonce no. 408.

Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.

Ensidig glat sulfitpapier. — *M. G. sulphite paper.* — *Einseitig ge-glättetes Sulfitpapier.* — *Papier au bisulfite, satiné d'un côté.* — *Papel sulfito lustrado por un lado.* — *Бумага изъ сульфита съ одною сатинированною стороною.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

A/S Papirfabriken Brager, Drammen. — Annonce no. 86.

Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen. — Annonce no. 108.

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.

Aktieselskabet Granfos Brug Ltd., Lysaker pr. Kristiania.

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.

Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.

A/S Papyrus Paper Mill, Mjøndalen.

A/S Skiens Papirfabrik, Skien. — Annonce no. 422.

Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Ensidig glat «cap» papir. — *M. G. cap. — Einseitig geglättetes «Cap» Papier. — Papier «cap», satiné d'un côté. — Papel «cap» lustrado por un lado. — Бумага «cap» сь одною сатинированною стороною.*

A/S Papirfabriken Brager, Drammen.—Annonce no. 86.
 Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen.—Annonce no. 108.
 Aktieselskabet Granfos Brug Ltd., Lysaker pr. Kristiania.
 Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
 A/S Papyrus Paper Mill, Mjøndalen.
 A/S Skiens Papirfabrik, Skien.—Annonce no. 422.
 A/S Svelvik Papirfabrik, Svelvik.
 Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Usatineret brunt kraftpapir. — *Unglazed kraft brown. — Unsatinertes braunes Kraftpapier. — Papier fort brun, non satiné. — Papel moreno de fuerza, sin satinar. — Несатинированная коричневая крепкая бумага.*

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
 Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Aadalsbrug st.
 Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
 M. Peterson & Søn, Moss.
 Ranheims Papirfabrik, Ranheim.
 Torp Brugs Aktieselskab, Fredriksstad.
 Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Satineret brunt kraftpapir. — *Glazed kraft brown. — Satiniertes braunes Kraftpapier. — Papier fort brun, satiné. — Papel moreno de fuerza, satinado. — Сатинированная коричневая крепкая бумага.*

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
 Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
 M. Peterson & Søn, Moss.
 Ranheims Papirfabrik, Ranheim.
 Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Ensidig glat brunt kraftpapir. — *M. G. kraft brown. — Einseitig geglättetes braunes Kraftpapier. — Papier fort brun, satiné d'un côté. — Papel moreno de fuerza por un lado lustrado. — Коричневая крепкая бумага сь одною сатинированною стороною.*

Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
 Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
 M. Peterson & Søn, Moss.
 Torp Brugs Aktieselskab, Fredriksstad.
 Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Usatineret sealing. — *Unglazed sealing.* — *Unsatiniertes Sealing.*
— *Papier «sealing» non satiné.* — *Papel «sealing» sin satinar.* — *Несатинированная бумага «sealing».*

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.
Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Aadalsbrug st.
Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
M. Peterson & Søn, Moss.
Ranheims Papirfabrik, Ranheim.
Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Satineret sealing. — *Glazed sealing.* — *Satiniertes Sealing.* —
Papier «sealing» satiné. — *Papel «sealing» satinado.* —
Сатинированная бумага «sealing».

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.
Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
M. Peterson & Søn, Moss.
Ranheims Papirfabrik, Ranheim.
Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Ensidig glat sealing. — *M. G. sealing.* — *Einseitig geglättetes Sealing.* —
Papier «sealing», satiné d'un côté. — *Papel «sealing» lustrado por un lado.* — *Бумага «sealing» сз одною сатинированною стороною.*

A/S Forenede Papirfabriker, Kierulf & Ryberg, Drammen.
Aktieselskabet Jarlsberg Paper Mills, Gulskogen.
Norwegian Paper Co. A/S, Drammen.
M. Peterson & Søn, Moss.
Union Co., Skien.—Annonce no. 416—419.

Usatineret brunt træpapir. — *Unglazed nature brown.* — *Unsatiniertes Braunholzpapier.* — *Papier brun nature, non satiné.* — *Papel moreno de madera sin satinar.* — *Коричневая древесная бумага, несатинированная.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.
Drammenselvans Papirfabriker, Gjeithus.
Jens Gram, Drammen.—Annonce no. 91.
Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord.—Annonce no. 407.
Tinfos Papirfabrik, Notodden.—Annonce no. 412.

Satineret brunt træpapir. — *Glazed nature brown (glazed ochre).* — *Satiniertes Braunholzpapier.* — *Papier brun satiné.* — *Papel moreno satinado de madera.* — *Сатинированная коричневая древесная бумага.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Randsfjord Træmasse- & Papirfabrik, Randsfjord. — Annonce no. 407.
 Tinfos Papirfabrik, Notodden. — Annonce no. 412.
 Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Ensidig glat brunt træpapir. — *M. G. nature brown. — Einseitig geglättetes Braunholzpapier. — Papier brun nature satiné d'un côté. — Papel moreno de madera, lustrado por un lado. — Коричневая древесная бумага с одною сатицированной стороною.*

Bøhnsdalen Mills Ltd., Bøn pr. Kristiania.

Flaskepapir. — *Bottle wrapping. — Flaschenpapier. — Papier emballage pour bouteilles. — Papel para envolver botellas. — Бумага для упаковки бутылокъ.*

Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen. — Annonce no. 108.
 Edward Lloyd Limited, Vittingfos.
 Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Usatineret silkepapir, hvidt og farvet. — *Unglazed tissue paper, white and coloured. — Unsatiniertes Seidenpapier, weiss und farbig. — Papier de soie, blanc et de couleur, non satiné. — Papel de seda, blanco y colorado sin satinar. — Шелковая бумага, несатицированная, бѣлая и цвѣтная.*

Drammen Paper Mills A/S, Drammen.
 Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen. — Annonce no. 108.
 Aktieselskabet Granfos Brug Ltd., Lysaker pr. Kristiania.
 A/S Papyrus Paper Mill, Mjøndalen.
 A/S Svelvik Papirfabrik, Svelvik.
 Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Ensidig glat silkepapir, hvidt og farvet. — *M. G. tissue paper, white and coloured. — Einseitig geglättetes Seidenpapier, weiss und farbig. — Papier de soie satiné d'un côté, blanc et de couleur. — Papel de seda por un lado lustrado, blanco y colorado. — Шелковая бумага, бѣлая и цвѣтная, с одною сатицированной стороною.*

Aktieselskabet Eker Papirfabrik, Mjøndalen. — Annonce no. 108.
 Aktieselskabet Granfos Brug Ltd., Lysaker pr. Kristiania.
 O. Grundt-Røsholm, Hofs Brug pr. Hønefos.
 A/S Skiens Papirfabrik, Skien. — Annonce no. 422.
 A/S Svelvik Papirfabrik, Svelvik.
 Union Co., Skien. — Annonce no. 416—419.

Kalvild Træsliberi, Lillesand.
Vardal Træmassefabrik, Breiskallen st.

Bogbinderpap. — *Bookbinders' boards.* — *Buchbinderpappe.* —
Carton pour relieurs. — *Cartón para encuadernadores.* —
Картонъ для переплетныхъ работъ.

Aktieselskabet Fjeldhammer Brug, Kristiania. — Annonce no. 223.
A/S Trondhjems Papir- og Papfabrik, Trondhjem.

Bygningspap. — *Panelling boards.* — *Baupappe.* — *Carton de construction.* — *Cartón de construcción.* — *Панка для стоевий.*

Eduard Fett & Co., Kristiania.
Aktieselskabet Fjeldhammer Brug, Kristiania. — Annonce no. 223.
Aktieselskabet Halvorsen & Larsen Ld., Kristiania. — Annonce no. 237.
Kalvild Træsliberi, Lillesand.
Sævareid Karton- og Papfabrik, Bergen.
A/S Trondhjems Papir- og Papfabrik, Trondhjem.

Tagpap. — *Carton-pierre for roofing.* — *Dachpappe.* — *Carton pierre.* — *Cartón de techo.* — *Кровельная панка.*

Fr. Enboms Tagpapfabrik, Drammen.
Eduard Fett & Co., Kristiania.
Aktieselskabet Fjeldhammer Brug, Kristiania. — Annonce no. 223.
Hasle Stentagpapfabrik, Kristiania.
Sævareid Karton- og Papfabrik, Bergen.
A/S Trondhjems Papir- og Papfabrik, Trondhjem.

Isoleringspap. — *Insulating cardboard.* — *Isolationspappe.* —
Carton isolant. — *Cartón aislador.* — *Разобитительная панка.*

Eduard Fett & Co., Kristiania.
Aktieselskabet Fjeldhammer Brug, Kristiania. — Annonce no. 223.
A/S Trondhjems Papir- og Papfabrik, Trondhjem.

Uldpap. — *Paper floor-cloth.* — *Fussbodenpappe.* — *Carton pour parquets.* — *Cartón de lana.* — *Панка для половъ.*

Aktieselskabet Fjeldhammer Brug, Kristiania. — Annonce no. 223.
A/S Trondhjems Papir- og Papfabrik, Trondhjem.

Chromo karton. — *Chromo boards.* — *Chromokarton.* — *Carton au chrome.* — *Cartón de cromo.* — *Хромовый картонъ.*

Sævareid Karton- og Papfabrik, Bergen.

NORGES OPLYSNINGSKONTOR
FOR NÆRINGSVEIENE

Telefoner: 2198, 12075, 2239, 12755

Telegrafadresse „Lys“

Codes: A B C 5te udgave, Lieber, Watkins' Ship
Brokers' Telegraphic Code, Watkins' Universal
Shipping Code, Scott's 10de udgave, Western
Union, Wood Code, Zebra, New Zebra, New
General and Mining, Two - in - One m. fl.

Alle oplysninger gives uden ansvar

Kristiania, le 7 mai 1914.

Monsieur le Directeur du Journal Tasfir -I-Efkïar,
Rue Chéref,
Constantinople,


Monsieur le Directeur,

En réponse à votre lettre du 24 du mois passé,
adressée à la Chambre de Commerce Norvégienne, Christi-
ania, nous avons l'honneur de vous faire parvenir sous
./. ce pli des listes imprimées, contenant les noms et les
adresses des fabriques de papier de Norvège pour la four-
niture du papier de journal etc.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, les
assurances de notre considération distinguée.

L'Office national du Commerce extérieur de Norvège,

Le Directeur,



TDV İSAM
Kütüphanesi Arşivi
No 2E.75813

